

میت کی بوڈی پاکستان میں لے جانا کیسا؟
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میت کی بوڈی پاکستان میں لے جانا کیسا ہے؟ اور میں نے سنا ہے کہ فلائیٹ میں بوڈی رکھنے سے پہلے میت سے خون نکال کر اس کی آنتوں میں الکوحل بھرا جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا جائے؟

سائل: شعیب (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي الثُّورَ وَالصَّوَابَ

جس شہر میں انتقال ہو اسی شہر کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے اگرچہ اس کی رہائش وہاں نہ ہو اور بلاعذر میت کو دوسرے شہر یا ملک میں منتقل کرنے سے کچھ علماء نے منع کیا۔

جیسا کہ بہار شریعت میں بحوالہ عالمگیری ہے کہ: جس شہر یا گاؤں وغیرہ میں انتقال ہوا وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے اگرچہ یہ وہاں رہتا نہ ہو، بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والوں کے قبرستان میں دفن کریں اور دو ایک میل باہر لے جانے میں حرج نہیں کہ شہر کے قبرستان اکثر اتنے فاصلے پر ہوتے ہیں اور اگر دوسرے شہر کو اس کی لاش اٹھالے جائیں تو اکثر علما نے منع فرمایا اور یہی صحیح ہے۔

(بہار شریعت ج 1 ص 847 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

مگر فتاویٰ ہندیہ جس کا دوسرا نام عالمگیری ہے اس میں ہے کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ملک میں لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جیسا کہ اس میں ہے: "لَوْ مَاتَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ فَإِنْ نُقِلَ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ لَا بَأْسَ بِهِ" اگر وہ کسی اور شہر میں فوت ہو تو اسے وہیں چھوڑنا مستحب ہے اور اگر کسی دوسرے شہر کی طرف منتقل کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل

السادس، ج 1 ص 167)

اگر واقعی میت کو فلائیٹ میں رکھنے سے پہلے الکوحل بھری جاتی ہے تو پھر میت کو دوسرے ملک منتقل نہ کیا جائے کہ یہ تکلیف دہ عمل ہے اور میت کو تکلیف دینا ناجائز ہے اور اگر بغیر تکلیف کے لے جانا ممکن ہے تو ناجائز نہیں ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date: 18-03-2019

How is it to take the body of a deceased to Pakistan?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: How is to take the body of a deceased to Pakistan. I have heard that before the body is taken onto the flight, all the blood is removed and then alcohol is injected into the veins. What should one do in this case?

Questioner: Shuaib from England

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

It a Mustahabb [commendable in Sharī'ah] that a person be buried in the graveyard of the same city that they pass away in, even if they did not live in that city during their lifetime. In addition, unless there is a valid reason [in the eyes of Sharī'ah], some scholars actually prevent from the body being moved to a different city or country for that matter.

Just as it is stated in Bahār-e-Sharī'at, referencing 'Ālamgīrī, that it is Mustahabb to bury the deceased in the cemetery of the city or village etc. where he passed away, even if he did not live there. In fact, he should be buried in the cemetery of the people in whose house he has passed away. There is no harm in taking the body one or two miles away, because the cemetery of the city is usually a certain distance away. If his body is taken to another city, then most scholars have disallowed (i.e. disapproved of) this, and this is the correct view.

[Bahār-e-Sharī'at, vol 1, part 4, pg 847]

However, it is mentioned in 'Ālāmīrī, whose other name is Fatāwā Hindiyyah, that there is no problem in moving the deceased from one city to the other, or even another country,

"لَوْ مَاتَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ فَإِنْ نُقِلَ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ لَا بَأْسَ بِهِ"

"If the deceased passed away in another city [to where they were from], then to leave [i.e. bury] them there is Mustahabb. Though, if the body is shifted to another city, then there is no problem in this."

[al-Fatāwā al-Hindiyyah, vol 1, ch 21, pg 167]

If the body is indeed injected with alcohol before it is boarded onto the plane, then the body is not to be moved to another country, as this is an extremely painful act, and to cause pain to the deceased is impermissible. However, if it is possible to take the body without causing any pain, then it is not impermissible.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Haider Ali